



سوال

(14) جان بوجھ کر نجاست کی حالت میں نماز پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ کافر ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نہیں، وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز باطل ہوگی، اور اس پر اسے دوبارہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ معروف مالکی فقہیہ خطاب اپنی کتاب مواہب الجلیل میں لکھتے ہیں۔

"آن من صلی بالنجاستہ متعمدا عالما بحکمہا، أو جابلا وهو قادر علی إزالتہا یعد صلاتہ أبدا،"

جس آدمی نے علم ہونے کے باوجود، یا جہالت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ اسے اتارنے پر قادر تھا تو وہ لازماً اپنی نماز لوٹانے گا۔

ابن رشد، البواقی، ابن قدامہ، اور امام مالک سے بھی ایک روایت میں یہی مشہور ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب